

سُورَةُ الْيَاسِينِ

Let's Understand

**Surah-e-Yaseen**

**BOOK - IV**

( for Grade VIII )



INSTITUTE OF LEARNING  
AND MENTORSHIP

## INSTITUTE OF LEARNING & MENTORSHIP

سورة التيسر

### BOOK 04

Student's Name: \_\_\_\_\_

Father/Guardian's Name: \_\_\_\_\_

Class: \_\_\_\_\_ Section: \_\_\_\_\_

Subject: \_\_\_\_\_ Roll No.: \_\_\_\_\_

# Contents

Lesson # 20 .....	3
<i>Exercise A: Arabic Vocabulary</i> .....	4
<i>Exercise C: Vocabulary Quiz</i> .....	4
Lesson # 21 .....	5
<i>Exercise A: Arabic Vocabulary</i> .....	6
<i>Exercise C: Vocabulary Quiz</i> .....	6
Lesson # 22 .....	7
<i>Exercise A: Arabic Vocabulary</i> .....	8
<i>Exercise C: Vocabulary Quiz</i> .....	8
<i>Exercise D: Coloring the vocabulary</i> .....	9
Lesson # 23 .....	10
<i>Exercise A: Arabic Vocabulary</i> .....	11
<i>Exercise C: Vocabulary Quiz</i> .....	11
Lesson # 24 .....	12
<i>Exercise A: Arabic Vocabulary</i> .....	13
<i>Exercise C: Vocabulary Quiz</i> .....	13
Lesson # 25 .....	14
<i>Exercise A: Arabic Vocabulary</i> .....	15
<i>Exercise B: Coloring the vocabulary</i> .....	15
<i>Exercise C: Vocabulary Quiz</i> .....	16

## Lesson # 20

### Qur'anic Ayah

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾  
وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَاتَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾  
وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

### Urdu Translation

اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے پھر لپک کر رستہ کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجھتا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے۔ اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیریں تو کیا سمجھے نہیں۔

### English Translation

And if We willed, We could have obliterated their eyes, and they would race to [find] the path, and how could they see? And if We willed, We could have deformed them, [paralyzing them] in their places so they would not be able to proceed, nor could they return. And he to whom We grant long life We reverse in creation; so will they not understand?

## Lesson # 20

### Exercise A: Arabic Vocabulary

Memorize the vocabulary given below.

And if We willed	اور اگر ہم چاہیں	وَلَوْ نَشَاءُ
We (would have) surely obliterated	البتہ ناپید کر دیں ہم	لَطَمَسْنَا
their eyes	ان کی آنکھوں کے	أَعْيُنِهِمْ
then they (would) race	پس آگے پکڑیں گے	فَاسْتَبَقُوا
surely We (would have) transformed them	البتہ مسخ کر دیں انکو	لَمَسَخْنَاهُمْ
And (he) whom We grant him long life	اور جسکو عمر دیتے ہیں ہم اسکو	وَمَنْ نُعَمِّرْهُ
We reverse him	نگوں سار کرتے ہیں ہم اسکو	نُنَكِّسْهُ
Then will not they use intellect	کیا پس نہیں دیکھتے	أَفَلَا يَعْقِلُونَ

### Exercise B: Vocabulary Quiz

Complete the vocabulary table given below.

		وَلَوْ نَشَاءُ
their eyes	ان کی آنکھوں کے	
		فَاسْتَبَقُوا
their places	جگہ ان کی کہ	
And (he) whom We grant him long life	اور جسکو عمر دیتے ہیں ہم اسکو	
		أَفَلَا يَعْقِلُونَ

## Lesson # 21

### Qur'anic Ayah

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾  
لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَجِئَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا  
خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾

### Urdu Translation

اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں،

### English Translation

And We did not give Prophet Muhammad, knowledge of poetry, nor is it befitting for him. It is not but a message and a clear Qur'an. To warn, whoever is alive and justify the word against the disbelievers. Do they not see that We have created for them from what Our hands have made, grazing livestock, and [then] they are their owners?

## Lesson # 21

### Exercise A: Arabic Vocabulary

Memorize the vocabulary given below.

And not We taught him	اور نہیں سکھایا ہم نے اسکو	وَمَا عَلَّمْنَاهُ
it is befitting	لائق	يَنْبَغِي
To warn	تاکہ ڈرائے	لِيُنذِرَ
and may be proved true the Word	اور ثابت ہوئی بات	وَيَحِقَّ الْقَوْلُ
Do not they see	کیا نہیں دیکھتے	أَوَلَمْ يَرَوْا
our hands	ہاتھوں اپنے کے	أَيْدِينَا
(are the) owners	مالک ہیں	مَلِكُونَ

### Exercise B: Vocabulary Quiz

Complete the vocabulary table given below.

		وَمَا عَلَّمْنَاهُ
it is befitting	لائق	
	ایک نصیحت	
		لِيُنذِرَ
and may be proved true the Word	اور ثابت ہوئی بات	
		أَوَلَمْ يَرَوْا
	ہاتھوں اپنے کے	
(are the) owners	مالک ہیں	

## Lesson # 22

### Qur'anic Ayah

وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٤٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٤٣﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٤﴾

### Urdu Translation

اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو۔

### English Translation

And We have tamed them for them, so some of them they ride, and some of them they eat. And for them therein are [other] benefits and drinks, so will they not be grateful? But they have taken besides Allah [false] deities that perhaps they would be helped.

## Lesson # 22

### Exercise A: Arabic Vocabulary

Memorize the vocabulary given below.

And We have tamed them	اور فرمانبردار کیا	وَ ذَلَّلْنَاهَا
some of them	بعض ان میں سے	مِنْهَا
they ride them	سواری ان کی ہے	رَكُوبُهُمْ
(are) benefits	فائدے	مَنَافِعُ
and drinks	پینا ہے	وَ مَشَارِبٌ
But they have taken	اور پکڑتے ہیں	وَ اتَّخَذُوا
be helped	مدد کئے جائیں	يُنصَرُونَ


### Exercise B: Vocabulary Quiz

Complete the vocabulary table given below.

		وَ ذَلَّلْنَاهَا
some of them	بعض ان میں سے	
		رَكُوبُهُمْ
(are) benefits	فائدے	
		وَ مَشَارِبٌ
But they have taken	اور پکڑتے ہیں	
	مدد کئے جائیں	

***Exercise C: Coloring the vocabulary***

Color the animals, from the lesson shown below;



## Lesson # 23

### Qur'anic Ayah

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٤٥﴾ فَلَا يَحْزُنكَ  
قَوْلُهُمْ- إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٤٦﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا  
خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٤٧﴾

### Urdu Translation

وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے۔ تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو  
بیشک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے  
پانی کی بوند سے بنایا جیسی وہ صریح جھگڑالو ہے۔

### English Translation

They are not able to help them, and they [themselves] are for them soldiers in attendance. So let not their speech grieve you. Indeed, We know what they conceal and what they declare. Does man not consider that We created him from a [mere] sperm-drop - then at once he is a clear adversary?

## Lesson # 23

### Exercise A: Arabic Vocabulary

Memorize the vocabulary given below.

Not they are able	نہیں کر سکیں گے	لَا يَسْتَطِيعُونَ
to help them	مدد ان کی	نَصْرَهُمْ
(who will) be brought	حاضر کئے گئے	مُحَضَّرُونَ
grieve you	غمگین کریں تجھ کو	يَحْزُنُكَ
what they conceal	جو کچھ چھپاتے ہیں	مَا يُسِرُّونَ
and what they declare	اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں	وَمَا يُعْلِنُونَ
(is) an opponent	جھگڑنے والا ہے	حَصِيمٌ

### Exercise B: Vocabulary Quiz

Complete the vocabulary table given below.

Not they are able	نہیں کر سکیں گے	
		نَصْرَهُمْ
(who will) be brought	حاضر کئے گئے	
		يَحْزُنُكَ
their speech	باتیں ان کی	
		مَا يُسِرُّونَ
and what they declare	اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں	
(is) an opponent	جھگڑنے والا ہے	

## Lesson # 24

### Qur'anic Ayah

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ ﴿٤٨﴾  
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٤٩﴾  
الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٥٠﴾

### Urdu Translation

اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں، تم فرماؤ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں آگ پیدا کی جیسی تم اس سے سلگاتے ہو۔

### English Translation

And he presents for Us an example and forgets his [own] creation. He says, "Who will give life to bones while they are disintegrated?" Say, "He will give them life who produced them the first time; and He is, of all creation, Knowing." [It is] He who made for you from the green tree, fire, and then from it you ignite.

## Lesson # 24

### Exercise A: Arabic Vocabulary

Memorize the vocabulary given below.

And he sets forth for Us	اور بیان کی واسطے ہمارے	وَ ضَرَبَ لَنَا
and forgets his (own) creation	اور بھول کیا پیدائش اپنی	وَ نَسِيَ خَلْقَهُ
Who will give life	کہ کون زندہ کریگا	مَنْ يُحْيِي
(to) the bones	ہڈیوں کو	الْعِظَامَ
while they (are) decomposed	اور وہ بوسیدہ ہیں	وَ هِيَ رَمِيمٌ
(the) first time	پہلی بار	أَوَّلَ مَرَّةٍ
the tree [the] green	سرسبز درخت	الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ
ignite	روشنی کرتے ہو	تُوقِدُونَ

### Exercise B: Vocabulary Quiz

Complete the vocabulary table given below.

And he sets forth for Us	اور بیان کی واسطے ہمارے	
		مَنْ يُحْيِي
	ہڈیوں کو	
	اور وہ بوسیدہ ہیں	وَ هِيَ رَمِيمٌ
(the) first time	پہلی بار	
		الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ
ignite	روشنی کرتے ہو	

## Lesson # 25

### Qur'anic Ayah

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ  
بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ  
كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ  
تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

### Urdu Translation

اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا کیوں نہیں اور وہی بڑا پیدا کرنے  
والا سب کچھ جانتا، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا وہ فوراً ہو جاتی  
ہے، تو پاکی ہے، اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے، اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔

### English Translation

Is not He who created the heavens and the earth Able to create the likes of them? Yes, [it is so]; and He is the Knowing Creator. His command is only when He intends a thing that He says to it, "Be," and it is. So exalted is He in whose hand is the realm of all things, and to Him you will be returned.

## Lesson # 25


### Exercise A: Arabic Vocabulary

Memorize the vocabulary given below.

created the heavens	پیدا کیا آسمانوں کو	خَلَقَ السَّمَوَاتِ
and the earth	اور زمین کو	وَالْأَرْضِ
Able	قدرت والا	بِقَدْرِ
His Command	حکم اس کا	أَمْرِهِ
in Whose hand	اسکے ہاتھ میں ہے	بِيَدِهِ
is (the) dominion	بادشاہی	مَلَكُوتُ
and to Him you will be returned	اور طرف اسی کی پھیرے جاؤ گے	وَالْيَهُ تُرْجَعُونَ

### Exercise B: Coloring the vocabulary

Color the image, from the lesson shown below;



### Exercise C: Vocabulary Quiz

Complete the vocabulary table given below.

created the heavens	پیدا کیا آسمانوں کو	
and the earth	اور زمین کو	
		بِقَدْرِ
		أَمْرَةٍ
in Whose hand	اسکے ہاتھ میں ہے	بِيَدِهِ
is (the) dominion	بادشاہی	
		وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ

# ilm


**STEM**  
FOCUSED SCHOOL



“This book translates the Quranic Surah-e-Yaseen into Urdu and English languages. The workbook also include practice exercises through which students can understand and practice Arabic content from Surah-e-Yaseen.”



+923329993145



[www.pak.ilmforall.org](http://www.pak.ilmforall.org)



+923323793145